

Warm-up exercises

Part 3

PLAY: *m, i; i m* or any other
finger(-s) you feel comfortable with

- sharp, half step/fret up;
b - flat, half step/fret down

Ex. 1

Dmitri Timoshenko

Acoustic Guitar

Acoustic Guitar

TAB

A. Gtr.

A. Gtr.

TAB

A. Gtr.

A. Gtr.

TAB

2

4

A. Gtr.

m *m* *m* *m*

1 3

A. Gtr.

T
A
B

1 3 1 3 1 3 1 3

5

A. Gtr.

m *m* *m* *m*

1 4

A. Gtr.

T
A
B

1 4 1 4 1 4 1 4

6

A. Gtr.

m *m* *m* *m*

2 3

A. Gtr.

T
A
B

2 3 2 3 2 3 2 3

7

A. Gtr.

m *m* *m* *m*

2 4

A. Gtr.

T
A
B

2 4 2 4 2 4 2 4

Ex. 2

A. Gtr. *m* *m* *m* *m* 3

A. Gtr. T A B 2 1 2 1 2 1 2 1

A. Gtr. *m* *m* *m* *m*

A. Gtr. T A B 3 2 3 2 3 2 3 2

A. Gtr. *m* *m* *m* *m*

A. Gtr. T A B 4 3 4 3 4 3 4 3

A. Gtr. *m* *m* *m* *m*

A. Gtr. T A B 3 1 3 1 3 1 3 1

4

A. Gtr.

A. Gtr.

T
A
B

4 1 4 1 4 1 4 1

A. Gtr.

A. Gtr.

T
A
B

3 4 3 4 3 4 3 4

A. Gtr.

A. Gtr.

T
A
B

4 2 4 2 4 2 4 2

11
8

Ex. 1

A. Gtr.
A. Gtr.

A. Gtr.
A. Gtr.

A. Gtr.
A. Gtr.

A. Gtr.
A. Gtr.

Ex. 2

A. Gtr.

A. Gtr.

A. Gtr.

A. Gtr.

A. Gtr.

A. Gtr.